

سبقی منصوبہ بندی: 1
وقت: 40 منٹ

مضمون: اسلامیات
تاریخ: _____

جماعت: اول
ہفتہ: 5

تیسری سہ ماہی
اُستاد کا نام: _____

سبق کا نام: حفظ و ترجمہ (دہرائی)

باب اول: قرآن مجید و حدیثِ نبوی ﷺ

حاصلاتِ تعلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ◆ کلمہ طیبہ مع ترجمہ اور مفہوم یاد کر سکیں۔
- ◆ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کلمات اور ان کا مفہوم یاد کر سکیں۔

تدریسی معاونات:

اسلامیات کی کتاب۔ ورک شیٹ۔

5 منٹ

طریقہ تدریس:

- سبق کے آغاز میں طلبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علم میں اضافے کی دعا پڑھنے کی تلقین کریں۔
- طلبہ کو سبق حفظ و ترجمہ کی دہرائی کروائیں۔
- طلبہ کو ورک شیٹ دیں اور ہدایت دیں کہ دیے گئے وقت کے مطابق ورک شیٹ کو مکمل کریں۔
- طلبہ کے سامنے ورک شیٹ کو باواز بلند پڑھیں اور انھیں ہدایت دیں کہ ہر سوال کو غور سے پڑھیں اور جواب دیں۔

15 منٹ

اعادہ:

ورک شیٹ وقت پر مکمل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ورک شیٹ کو طلبہ کے سامنے چیک کریں اور غلطیوں کی اصلاح کریں۔

جائزہ:

N/A

گھر کا کام:

N/A

سوال 1: رنگ بھریں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط

سوال 2: کلمات میں رنگ بھریں اور ان کے مفہوم سے ملائیں۔

جو اللہ تعالیٰ چاہے

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا

مَا شَاءَ اللَّهُ

سوال 3: درست کلمات سے ملائیں۔

ہم سیر کرنے جائیں گے۔

میں نماز پڑھوں گا۔

وہ کل آپ سے ملے گا۔

مَا شَاءَ اللَّهُ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

میرے دادا ابو بہت اچھے ہیں۔

میں ہمیشہ صاف ستھرا رہوں گا۔

سبقی منصوبہ بندی: 2

وقت: 40 منٹ

مضمون: اسلامیات

تاریخ: _____

جماعت: اوّل

ہفتہ: 5

تیسری سہ ماہی

اُستاد کا نام: _____

سبق کا نام: حدیثِ نبوی ﷺ (دہرائی)

باب اوّل: قرآن مجید و حدیثِ نبوی ﷺ

حاصلاتِ تعلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ◆ ایک مختصر حدیث یاد کر سکیں۔
- ◆ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کلمات اور ان کا مفہوم یاد کر سکیں۔

تدریسی معاونات:

اسلامیات کی کتاب۔ ورک شیٹ۔

5 منٹ

طریقہ تدریس:

- سبق کے آغاز میں طلبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علم میں اضافے کی دعا پڑھنے کی تلقین کریں۔
- طلبہ کو سبق حدیثِ نبوی ﷺ کی دہرائی کروائیں۔
- طلبہ کو ورک شیٹ دیں اور ہدایت دیں کہ دیے گئے وقت کے مطابق ورک شیٹ کو مکمل کریں۔
- طلبہ کے سامنے ورک شیٹ کو باواز بلند پڑھیں اور انھیں ہدایت دیں کہ ہر سوال کو غور سے پڑھیں اور جواب دیں۔

15 منٹ

اعادہ:

ورک شیٹ وقت پر مکمل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ورک شیٹ کو طلبہ کے سامنے چیک کریں اور غلطیوں کی اصلاح کریں۔

جائزہ:

N/A

گھر کا کام:

N/A

سوال 1: رنگ بھریں اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ زبانی سنائیں۔

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

سوال 2: ذیل میں دی گئی باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کے کالم میں ”✓“ کا نشان لگائیں۔

نہیں

ہاں

• دن میں دو مرتبہ برش/مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں۔

• ہفتے میں ایک مرتبہ ناخن تراشتے ہیں۔

• اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔

• باقاعدگی سے نہاتے ہیں۔

• کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں۔

• کھیل کود کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوتے ہیں۔

• بیٹ الخلا استعمال کرنے کے بعد صابن سے اچھی طرح

ہاتھ دھوتے ہیں۔

• صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔

سبقی منصوبہ بندی: 3

وقت: 40 منٹ

مضمون: اسلامیات

تاریخ: _____

جماعت: اوّل

ہفتہ: 5

تیسری سہ ماہی

اُستاد کا نام: _____

سبق کا نام: اچھے اخلاق (دہرائی)

باب چہارم: اخلاق و آداب

حاصلاتِ تعلم:

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ◆ اچھے اخلاق کے متعلق جان سکیں۔
- ◆ اپنی عملی زندگی میں اچھے اخلاق کی خصوصیات اپنا سکیں۔

تدریسی معاونات:

اسلامیات کی کتاب۔ ورک شیٹ۔

5 منٹ

طریقہ تدریس:

- سبق کے آغاز میں طلبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علم میں اضافے کی دعا پڑھنے کی تلقین کریں۔
- طلبہ کو سبق اچھے اخلاق کی دہرائی کروائیں۔
- طلبہ کو ورک شیٹ دیں اور ہدایت دیں کہ دیے گئے وقت کے مطابق ورک شیٹ کو مکمل کریں۔
- طلبہ کے سامنے ورک شیٹ کو باواز بلند پڑھیں اور انھیں ہدایت دیں کہ ہر سوال کو غور سے پڑھیں اور جواب دیں۔

15 منٹ

اعادہ:

ورک شیٹ وقت پر مکمل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ورک شیٹ کو طلبہ کے سامنے چیک کریں اور غلطیوں کی اصلاح کریں۔

جائزہ:

N/A

گھر کا کام:

N/A

سوال 1: خالی جگہ پُر کریں۔

- ۱ روزانہ رات کو جلدی سونے اور صُبح سویرے اُٹھنے کی..... ڈالیں۔
- ۲ بات چیت کرتے وقت..... سے بولیں۔
- ۳ اپنے گھر اور سکول کو ہمیشہ..... رکھیں۔
- ۴ کمر اجتماعت میں..... نہ کریں۔
- ۵ ہمیشہ اپنے..... اور اساتذہ کرام کا کہا مانیں۔

سوال 2: دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔

۱۔ اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟

۲۔ اچھی عادات اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟
